

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قِيمَ أَنَسٌ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عُرْيَنَةٍ، فَاجْتَبَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِفَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَوَّلِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْثَرُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَالْقَوْمُ فِي الْحَرَّةِ يَسْتَنْسِفُونَ فَلَا يَسْقُونَ. قَالَ أَبُو قَلَابَةَ هَؤُلَاءِ سَرَفُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.



حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (قبیلہ) عکل اور عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے، وہاں کی ہوا انہیں موافق نہ آئی (اور بیمار ہو گئے) تو نبی ﷺ نے انہیں اونٹوں والی جگہ جانے کا حکم دیا، کہ وہاں جا کر وہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، وہ وہاں چلے گئے جب وہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے نبی ﷺ کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹنیاں بھگا لے گئے، یہ خبر صبح صبح مدینہ پہنچی تو آپ ﷺ نے ان کے پیچھے بندے دوڑا دیئے، جو انہیں پکڑ کر دن چڑھے نبی ﷺ کے پاس لائے تو آپ ﷺ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے، اور آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور انہیں مدینے کی پتھریلی زمین پر پھینک دیا گیا، وہ شدتِ پیاس کی وجہ سے پانی مانگتے لیکن پانی نہ دیا جاتا، ابو قلابہ فرماتے ہیں (ایسی سخت سزا اس لئے دی گئی کہ) انہوں نے چوری کی، قتل کیا، ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کی۔



Narrated By Abu Qilaba: Anas said, "Some people of 'Ukl or 'Uraina tribe came to Medina and its climate did not suit them. So the Prophet SAWW ordered them to go to the herd of (Milch) camels and to drink their milk and urine (as a medicine). So they went as directed and after they became healthy, they killed the shepherd of the Prophet and drove away all the camels. The news reached the Prophet SAWW early in the morning and he sent (men) in their pursuit and they were captured and brought at noon. He then ordered to cut their hands and feet (and it was done), and their eyes were branded with heated pieces of iron, They were put in 'Al-Harra' and when they asked for water, no water was given to them." Abu Qilaba said, "Those people committed theft and murder, became infidels after embracing Islam and fought against Allah and ".His Apostle



حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّيَّاحِ، يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.



حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔



Narrated By Anas: Prior to the construction of the mosque, the Prophet SAWW offered the

prayers at sheep-folds.



Ahadeeth 233 - 235

